1. The percentage of carbon dioxide in air is:	Time: 10 Minutes		Paper G. Science 6th			Total Marks: 10			
(الله الله الله الله الله الله الله الله	4th Month, 2nd W	eek, 3rd	Day Sylla	bus:	Unit # 7:	Components	s of solution to		
ال المن كار تن الله المن كار تن الله الله الله الله الله الله الله الل			solver	nt+ Inq	uiry 7.2				
1. The percentage of carbon dioxide in air is: غيمد	Q.No.1 Encircle th	ie corre	ct answer f	rom t	he followi	ng choices.	(1×6=6)		
1. The percentage of carbon dioxide in air is: غيمد			رُەلگا ئىيں۔	کے گرددان	کریں اوراُس۔	پ جواب کاانتخاب	درج ذیل میں سے درس		
(a) 21% (b) 0.03% (c) 0.07% (d) 78% 2. Which of the following is a solvent? (a) Sugar (b) Carbon disulphide (c) Mercury (d) Alcohol 3. The number of components of binary solution is: المركى المولية ثن كا برائ التعادية (d) المورد الله الله الله الله الله الله الله الل	1. The percentag	e of car			•		_		
(a) Sugar (b) Carbon disulphide (c) Mercury (d) Alcohol (e) Mercury (d) Alcohol (d) Five (e) Four (e) Four (f) Four (g) Four (h) Five (h) Five (h) Four (h) Five (h) Four (h) Five (h) Solvent (h)									
(c) Mercury 3. The number of components of binary solution is: نحری سولیوش کے اجزا کی تعداد ہے: (a) Two (b) Three (c) Four (c) Four (d) Five (d) Five (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (e) Four (d) Four (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (e) Four (d) Five (e) Four (d) Five (e) Four (d) Five (e) Four (f) Five (h) Solvent (i) Concentration (c) Four (c) Four (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (d) Five (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (e) Four (d) Five (d) Five (e) Five (e) Five (d) Five (d) Five (e) Five (e) Five (d) Five (e) Five (e) Five (f) Five (h) F	2. Which of the f	ollowing	g is a solven	ıt?		سالوينٺ ہے؟	درج ذیل میں ہے کون		
3. The number of components of binary solution is: : نظری سولیوژن کے ابر الی تعداد ہے: (a) Two اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	(a) Sugar		ار	(b) شُوًّ	Carbon di	sulphide	كاربن ڈائی سلفائیڈ		
3. The number of components of binary solution is: :خرى الوليوش كابرا كي تعداد ہے: (c) Four الله (d) Five (e) Four الله (d) Five (e) Four الله (d) Five (e) Four الله الله (d) Five (e) Four الله الله الله الله الله الله الله الل	(c) Mercury		ری	(d)	Alcohol		الكوحل		
(a) Two 32 (b) Three 35 (c) Four 36 Four 37 (d) Five 37 (d) Five 38 Five 4. The percentage of nitrogen in air is: (a) 0.07% (b) 0.03% (c) 21% (d) 78% 5. The sugar is a: (a) Solute (b) Solvent (c) Solution (c) Solution (d) Concentration 6. How much is percentage of oxygen in air? (a) 21% (b) 31% (c) 41% (d) 51% Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4) (i) Define solvent. Give examples.	•	f compo		1		۔ 'اکی تعدادے: :	۔۔۔۔ مائنری سولیوثن کے اج		
4. The percentage of nitrogen in air is:							•		
5. The sugar is a: (a) Solute (b) Solvent (c) Solution (d) Concentration (e) How much is percentage of oxygen in air? (a) 21% (b) 31% (c) 41% (d) 51% Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4) (i) Define solvent. Give examples.	4. The percentag	e of nitr	ogen in air	is:		فصدے۔	· ہوا میں نائٹر وجن		
(a) Solute (b) Solvent (c) Solution (d) Concentration (e) Solution (d) Concentration (d) Concentration (d) Concentration (e) How much is percentage of oxygen in air? (g) 21% (h) 31% (c) 41% (d) 51% (d) 51% (e) All (f) 51% (f) Define solvent. Give examples.	(a) 0.07%	(b)	0.03%	(c)	21%	(d)	78%		
(c) Solution (d) Concentration (d) Concentration (المين آسيجن كنت فيصد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	5. The sugar is a:	1					شوگرہے:		
6. How much is percentage of oxygen in air? المين آسيجن كنت فيعدب (a) 21% (b) 31% (c) 41% (d) 51% Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4) قصر جوابات تكسين مثالين دين دين مثالين دين دين دين دين دين دين دين دين دين د	(a) Solute		ليوك	ر (b)	Solvent		سالويينك		
6. How much is percentage of oxygen in air? العن آسيجن كنت فيعدب (a) 21% (b) 31% (c) 41% (d) 51% Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4) قصر جوابات تكسين . (i) Define solvent. Give examples.	(c) Solution		ليوش	(d) سو	Concentra	ntion	كنستريش		
Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4) تقر جوابات کشیں۔ الوینٹ کی تعریف کریں۔مثالیں دیں۔									
(i) Define solvent. Give examples.	(a) 21%	(b)	31%	(c)	41%	(d)	51%		
	Q.No.2. Write the	short a	nswers.	(2 ×	2 = 4)		مخضر جوابات لکھیں۔		
ii) What are binary solutions? give example. مثال دیں۔	(i) Define solvent.	Give ex	amples.			یں۔مثالیں دیں۔	سالوينك كى تعريف كر		
	(ii) What are binary	solutio	ns? give exa	mple.		؟مثال ديں۔	بائنرى سوليوشنز كيابين		

Time: 10 Minutes Paper G. Science 6th Total Marks: 10									
4th Month, 2nd Week, 3rd Day Syllabus: Unit # 7: Components of solution to									
	solvent+ Inq	uiry 7.2							
Q.No.1 Encircle the corre	ct answer from t	he followin	g choices	s. (1×6=6)					
	کے گرددائر ہلگا ئیں۔	ب کریں اوراُس	,جواب كاانتخار	درج ذیل میں سے درست					
1. The percentage of carl	oon dioxide in air	r is: عدب	يڑفي	ہوا میں کاربن ڈائی آ کسائ					
(a) 21% (b)	0.03% (c)			78%					
2. Which of the following is a solvent?									
(a) Sugar	(b) شُوگر	Carbon dist	ulphide	كاربن ڈائی سلفائیڈ					
(c) Mercury	(d) مرکزی	Alcohol		الكوحل					
3. The number of components of binary solution is: بائنری سولیوش کے اجزاکی تعداد ہے:									
(a) Two 22 (b) Th			(d) چار	•					
4. The percentage of nitrogen in air is: يفيد بي في المين نائم وجن في المين المروج في									
(a) 0.07% (b)	0.03% (c)	21%	(d)	78%					
5. The sugar is a:				شوگرہے:					
(a) Solute	(b) سوليوٹ	Solvent		سالويينك					
(c) Solution	(d) سوليوشن	Concentrati	ion	كنسنر يشن					
6. How much is percenta	ge of oxygen in a	ir?	۶ٍ	ہوامیں آئسیجن کتنے فیصد۔					
(a) 21% (b)	31% (c)	41%	(d)	51%					
Q.No.2. Write the short an	nswers. (2 ×	2 = 4)		مخضرجوابات لكصين _					
(i) Define solvent. Give exa	amples.	-(ا_مثاليں ديں	سالوينٹ کی تعریف کریں					
(ii) What are binary solution	ns? give example.			بائنری سولیوشنز کیا ہیں؟ مز					